





* 4 5 8 1 4 9 8 1 1 * (1)



GB About the supplied stand

- ① Attaching the supplied stand prevents toppling of the unit. Cables connected to the rear side of the unit can be tied up to the hooks on the stand.
- ② To detach the stand, turn the unit upside down, and pull the stand up-forward by holding the rear side of the wing.

FR À propos du support fourni

- ① La fixation du support fourni empêche l'appareil de se renverser. Les câbles raccordés à l'arrière de l'appareil peuvent être fixés aux crochets du support.
- ② Pour détacher le support, retournez l'appareil tête en bas et tirez le support vers le haut en tenant l'arrière de l'aile.

ES Acerca del soporte suministrado

- ① La instalación del soporte suministrado evita que la unidad pueda caerse. Los cables conectados a la parte posterior de la unidad pueden enrollarse a los ganchos del soporte.

- ② Para desmontar el soporte, coloque la unidad al revés y tire del soporte hacia arriba y adelante sujetando la parte posterior del saliente.


DE Hinweis zum mitgelieferten Ständer

- ① Durch Anbringen des mitgelieferten Ständers können Sie verhindern, dass das Gerät umkippt. An der Rückseite des Geräts angeschlossene Kabel können an den Halterungen am Ständer gebündelt werden.
- ② Zum Abnehmen des Ständers drehen Sie das Gerät um, halten den Ständer an der Rückseite des Seitenteils und ziehen ihn nach oben und vorne ab.


IT Informazioni sul supporto in dotazione

- ① Applicare il supporto in dotazione impedisce il rovesciamento dell'unità. I cavi collegati alla parte posteriore dell'unità possono essere fissati tramite i ganci del supporto.
- ② Per rimuovere il supporto, capovolgere l'unità, e spingere il supporto in avanti e verso l'alto tenendolo dalla parte posteriore dell'aletta.

①



②



NL Over de bijgeleverde standaard

- ① U kunt voorkomen dat het toestel omvalt door de bijgeleverde standaard te bevestigen. Kabels die aangesloten zijn op de achterkant van het toestel kunnen vastgemaakt worden met de haken op de standaard.
- ② Om de standaard te verwijderen, houdt u het toestel ondersteboven en trekt u de standaard omhoog en naar voor door de achterkant van de vleugel vast te nemen.

PL Informacje o dołączonej podstawie

- ① Podłączenie dołączonej podstawki zapobiega przewróceniu się urządzenia. Kable podłączone z tyłu urządzenia można przymocować do zaczepów podstawki.
- ② Aby odłączyć podstawkę, obróć urządzenie spodem do góry, a następnie pociągnij podstawkę do góry i do przodu, trzymając za tylną stronę skrzydełka.

TR Ürünle verilen sehpa hakkında

- ① Ürünle verilen sehpanın takılması ünitenin devrilmesini önler. Ünitenin arka tarafına bağlanan kablolar, sehpadaki halkalara bağlanabilir.
- ② Sehpayı ayırmak için, üniteyi baş aşağı çevirin, kanadın arka tarafını tutarak sehpayı yukarıya ve ileriye doğru çekin.

VN Giới thiệu về bộ đi kèm

- ① Lắp bộ đi kèm giúp thiết bị không bị lật. Bạn có thể buộc lại cáp được nối với phía sau của thiết bị vào móc treo trên bộ.
- ② Để tháo bộ ra, hãy lật ngược thiết bị xuống và kéo bộ ra bằng cách giữ phía sau của

CT 關於隨附的支架

- ① 安裝隨附的支架可防止本機傾倒。連接在本機背面的電纜可網綁至支架的鉤子上。
- ② 若要拆下支架，將本機倒置，然後藉由抓住翼部的背面將支架朝前上方拉出。

AR حول الحامل المرفق

- ① يحول تركيب الحامل المرفق دون سقوط الوحدة. يمكن ربط الكابلات المتصلة بالجانب الخلفي للوحدة بالخطافات الموجوة بالحامل.
- ② لفك الحامل، اقلب الوحدة رأساً على عقب، واسحب الحامل للأمام من خلال الإمساك بالجانب الخلفي للجناح.